

محلہ تعلیم و خواتین کی حکومت سندھ کی جانب سے اسکولوں کی ترقی اور بہتری کے لئے اسکول انتظامیہ کمیٹیوں (ایس ایم بی) کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ کمیٹیاں اساتذہ، والدین اور مقامی آبادی میں سے بنیں گی۔

- ۱۔ سرکاری امداد کو دیے گئے ہدایت نامہ کے مطابق خرچ کرنا۔
- ۲۔ اسکول کی ترقی کا منصوبہ بنانا۔
- ۳۔ اسکول کے اثاثوں کی حفاظت اور اس میں اضافہ کرنا۔
- ۴۔ والدین کو سرکاری تعلیمی اصلاحی منصوبہ سے آگاہ کرنا، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لئے راضی کرنا۔
- ۵۔ اسکول میں شاگردوں کی تعداد کو بڑھانا اور درمیان میں پڑھائی چھوڑنے سے روکنا۔
- ۶۔ اسکولوں کی ترقی کے لئے مقامی ضلعی حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ رابطہ کر کے انھیں اسکول کی ترقی میں ہاتھ بٹانے پر آمادہ کرنا۔
- ۷۔ جماعت میں اساتذہ اور شاگردوں کی کارکردگی پر نظر رکھنا۔

ایس ایم سی جنرل ہاؤس اور انتظامی کمیٹی کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ جنرل ہاؤس میں وہ تمام والدین شامل ہیں جن کے بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں یا اسکول جانے کے قابل ہیں۔ انتظامی کمیٹی میں ہیڈ ٹیچر/ ہیڈ ماسٹر/ پرنسپل سمیت ارکان کی تعداد پانچ ہوگی۔

ایس ایم سی کی مدت دو تعلیمی سال ہے۔ ارکان والدین کی رضامندی سے اس میں ایک تعلیمی سال کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

جنرل ہاؤس کی ذمہ داریاں:

والدین میں سے چیر پرسن اور ایک نمائندہ کا انتخاب جب کہ صدر مدرس بطور جنرل ہاؤس کی ذمہ دار ہوتا ہے۔ مقامی آبادی میں سے دو ممبران کا انتخاب جو کہ یونین کاؤنسل کے رکن۔ سابق سرکاری ملازمین۔ این جی او کے رکن اور تعلیم میں دلچسپی رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ عدم دستیابی کی صورت میں والدین میں سے ہی بقیہ دو ممبران انتظامی کمیٹی میں لیے جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کی ترقی کے منصوبے کی منظوری دینا بھی جنرل ہاؤس کی ذمہ داری ہے۔

بچیوں کے اسکول میں ایس ایم سی کی انتظامی کمیٹی میں کم از کم تین خواتین شامل ہوں۔ ایس ایم سی کی انتظامی کمیٹی میں رشتہ دار نہ ہوں جیسے میاں بیوی، ہند بھاونج، بھائی اور بہنیں وغیرہ وغیرہ۔

انتخابات کا مرحلہ:

ایس ایم سی کا جنرل ہاؤس بیکریٹری یعنی صدر مدرس (ہیڈ ٹیچر/ ہیڈ ماسٹر/ پرنسپل) ہر دو سال بعد انتخابات کا انتظام کرے گا۔

طریقہ کار:

انتخابات سے دس روز قبل ہیڈ ٹیچر/ ہیڈ ماسٹر/ پرنسپل شاگردوں کے والدین اور مقامی آبادی کے متعلقہ لوگوں کو اس بارے میں اطلاع فراہم کرے گا۔

ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

اس سلسلے میں دو طریقے اپنائے جاسکتے ہیں۔
(۱) پرچی کے ذریعے (۲) ہاتھ اٹھا کے

ایس ایم سی ارکان کی رکنیت کا خاتمہ:

جس رکن کا بچہ اسکول چھوڑ چکا ہو۔
شدید ذہنی یا جسمانی بیماری کی صورت میں۔
غیر قانونی یا غیر اخلاقی کاموں میں حصہ لینے پر۔
لگاتار تین مرتبہ کمیٹی کے اجلاس سے غیر حاضر ہونے پر۔
استعفیٰ دینے یا وفات پانے کی صورت میں۔

انتظامی کمیٹی کے اختیارات و فرائض:

ماہانہ اجلاس میں شریک ہونا اور تمام والدین (جنرل ہاؤس) کو مقامی آبادی (کیونٹی) کے ساتھ سال میں کم از کم ایک بار اجلاس میں بلانا۔
اسکول کی ترقی کا منصوبہ کوڈنگ کے تحت بنانا۔
یہ کوڈز (Codes) رقم کہاں خرچ کر سکتے ہیں کے عنوان میں دے گئے ہیں۔
اسکول کی ترقی کے منصوبے کو نمائیاں جگہ پر لگانا اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا۔
اسکول کے اندر درس و تدریس کی سرگرمیوں کو فروغ دینا۔
ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا منصوبہ بنانا اور اس پر عمل درآمد کروانا۔
ماہانہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی منظوری دینا۔

جنرل ہاؤس کی فرائض:

- ۱۔ ایس ایم سی کے انتخابات کا انتظام کرنا۔
- ۲۔ تمام ماہانہ اور سالانہ اجلاسوں کا انتظام کرنا اور اس میں ہونے والے فیصلوں اور کارروائی کو تحریر کرنا۔
- ۳۔ اسکول رالیس ایس ایم سی سے متعلق ریکارڈ کو محفوظ رکھنا۔
- ۴۔ ایس ایم سی کے بینک اکاؤنٹ کو چیرمین ایس ایم سی کے ساتھ مل کر چلانا۔

چیر پرسن ایس ایم سی کے اختیارات و فرائض:

ایس ایم سی بینک اکاؤنٹ کو صدر مدرس (جنرل ہاؤس ایس ایم سی) کے ساتھ مل کر چلانا۔
دیگر ارکان کے مشورے سے اسکول کی ترقی کا منصوبہ بنانا۔
اسکول اور شاگردوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینا۔
ایس ایم سی کے اجلاس میں باقاعدگی سے شریک ہونا۔

انتظامی کمیٹی کے اجلاس:

یہ اجلاس ہر مہینے ہونا چاہئے۔ جبکہ جنرل ہاؤس کا اجلاس سال میں کم از کم ایک مرتبہ ہونا چاہئے۔
انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں کم از کم تین ارکان کا ہونا لازمی ہے۔

ایس ایم سی بینک اکاؤنٹ:

ایس ایم سی کے لئے اسکول کے سرکاری نام پر مشٹر کا اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ جس کو چیر پرسن ایس ایم سی اور جنرل ہاؤس ایس ایم سی دونوں کے دستخط سے چلایا جائے گا۔
ایس ایم سی کی امداد پر لین دین کے تمام کام ایس ایم سی اکاؤنٹ کے تحت انجام دیے جائیں گے۔ جس کا باقاعدہ ریکارڈ مالیاتی رجسٹر میں رکھا جائے گا۔
حکومت سندھ متعلقہ ضلعی تعلیمی دفتر سے ایس ایم سی کی معلومات کی تصدیق کے بعد سالانہ امداد اسٹیٹ بینک کی مدد سے ایس ایم سی کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرے گی۔

ایس ایم سی کے لئے سالانہ سرکاری امداد:

حکومت سندھ کی جانب سے پرائمری ایل / ایلیمینٹری / سینڈری / ہائیر سینڈری اسکول کو ایس ایم سی فنڈ دیا جائے گا جس کی تفصیل متعلقہ ای ڈی او (ایجوکیشن) کے دفتر یا ریفارم سپورٹ یونٹ کی ویب سائٹ www.rsu.sindh.gov.pp پر دیکھی جاسکتی ہے۔
یاد رہے کہ غیر فعال رہنما اور شاخ (برانچ) اسکولوں کو ایس ایم سی فنڈ نہیں دیا جائے گا۔

رقم کہاں خرچ کر سکتے ہیں:

ایس ایم سی فنڈ تین مدوں میں خرچ کیا جاسکتا ہے جس کی تفصیل بمعہ کوڈنگ درج ذیل ہے۔

- 01 معمولی نوعیت کی مرمت و بحالی کے کام
- 011 اسکول کے کمروں اور بیرونی دیواروں کی معمولی مرمت و بحالی کے کام
- 012 کلاس روم کے فرنیچر کی مرمت
- 013 کلاس روم میں رنگ و روغن
- 014 پنکھوں کی مرمت و خریداری
- 015 ہاتھ روم کی مرمت